



سوال

فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

(بعض) لوگ ہر نماز کے بعد امام کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں اور دعا مانگنا ضروری سمجھتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو نماز کے بعد امام کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگے گا، اس کی نماز نہیں۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں۔

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

ہر نماز کے بعد امام اور مقتدیوں کا اجتماعی دعا مانگنا کسی صحیح یا حسن حدیث سے ثابت نہیں ہے اگر مطالبہ دعا، یا کبھی بجز دعا مانگ لی جائے تو عمومی دلائل کی رو سے جائز ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو امام کے ساتھ اجتماعی دعا نہ مانگے۔ اس کی نماز نہیں ہوتی۔ ان کا یہ قول باطل بلکہ ڈھٹائی ہے جس کے وہ مرتکب ہیں۔ ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے اس قول سے توبہ کریں۔ متعدد علماء نے اس اجتماعی دعا کو بدعت قرار دیا ہے۔ مثلاً:

(1) ابن تیمیہ (لائٹاویٰ الکبریٰ ج 1 ص 188-189)

(2) ابن القیم (زاد المعاد ج 1 ص 257 قال: فلم یکن ذلک من ہدیہ ﷺ اصلاً ولا روی باسناد صحیح ولا حسن)

(3) الشاطبی (الاعتصام ج 1 ص 252) وغیر ہم بلکہ دور جدید میں بعض دیوبندیوں نے بھی اسے بدعت قرار دیا۔ دیکھئے: "رجل رشید" (ص 170، 171، 173)

حدا ما عنہ فی واللہ اعلم بالصواب

فتاویٰ علمیہ (توضیح الاحکام)

ج 1 ص 467



محدث فتویٰ